



ઉર્દુ સીર્ખે ભાગ 2

By Jabir Ali

ش

pdf is based
on android app

گ

ب

।



Whatsapp: +918052562259

فہرست

આ = ۱ ●

جڈم ●

ई - ۲ = ۳ ● ی ● ہمڈا = ۴ ●

ऊ - ۵ = ۶ ● ٹ - ۶ = ۷ ●

ए - ۸ = ۹ ● ے ●

ऐ - ۱۰ = ۱۱ ● ے ●

ओ کی مالا - ۱۲ = ۱۳ ●

औ - ۱۴ = ۱۵ ●

نونگونا ●

۱۶ چوٹی ہے ۱۷ ی ●

۱۸ ط ۱۹ فور ۲۰ نی ●

۲۱ اڈا ۲۲ پت ۲۳ ڈ ●

एक जैसी आवाज वाले लफ्ज

शरीर के अंगों के नाम

दिनों के नाम

अंग्रेज़ी महीने

व्यापारिक

घर की वस्तुएँ

चिड़िया

जानवर

रोगों के नाम

पशुओं की बोलियाँ

शहरों के नाम

औषधियों के नाम

फल

रिश्तेदारों के नाम

फूल

सब्जियाँ

अनाजों के नाम

मसाले

खाने पीने की वस्तुएँ

मकान

शस्त्र और हथियार

فہرست

- बाजों के नाम ● वस्तु सम्बन्धी शब्द ●
- आभूषणों के नाम ● धातुओं के नाम ●
- स्कूल से संबंधित ● रंगों के नाम ●
- न्यायालय ● इतिहास ●
- जातियाँ तथा धर्म ●
- मुसलिम लड़कों के नाम ●
- मुस्लिम औरतों के नाम ●
- हिन्दू स्त्रियों के नाम ●
- हिन्दी महीने हिन्दू पुरुषों के नाम ●
- सप्ताह के दिन ● अरबी महीने ●
- वर्ष के बारह महीने ●
- لفظ ● وَكْي ●

فہرست

تین اکٹھری شब्द ●

دو اکٹھری شब्द ●

پانچ اکٹھری شब्द ●


چار ہفتی لفاظ ●

سंयुک्त اکٹھر ●


۷ تشدید ●

ناتے رسول - شافیک را ی پوری ●


سُنکھیضت رُپِّ ویرام - چیہل ●



Learn Hindi Part 3
with Audio



Masnoon Duain with
Audio.



Learn Hindi Part 2
with Audio



Surah Maryam with
Audio



Surah Nisa with
Audio



Color coded Para 1
to 5 with A

4.6 ★

ज़ज़म

नीचे 3 हुरूफ़ वाले लफ्ज़ दिये जा रहे हैं। पहले हुरूफ़ पर **ज़बर**, दूसरे पर **ज़ज़म** और तीसरा बिना किसी ज़बर और **ज़ज़म** का है।

بَنْد

بَنْد

گَرْد

(गंदगी)

گُرُد

अगर लफ्ज़ का **आखिरी हर्फ़**

‘पूरा हर्फ़’ है तो वह ज़ज़म लगा हुआ यानी आधा पढ़ा जायेगा।

نَرْم

نَرْم

گَرْم

گُرُم

વَكْت

وَقْت

دَرْد

ڈُرُد

تَرْكُتْ

(سینھا سن)

سَرْكُتْ

شُخْتْ

سَخْتْ

سَدْ

جَجْ

سَرُودْ

جَحْ

इस तरह **ज़म** लगा हुआ आधा
 पढ़ा जायेगा। **बिना** ज़म और ज़बर
 का अखिरी हर्फ़ भी **हमेशा** आधा
 पढ़ा जायेगा।

जम

جَمْ

चल

چَلْ

सच

صَحْ

गज़

तर

(गीला)

टन

مَر

گَزْ

تَرْ

طَنْ

مَرْ

ਮਨ	ਮَنْ	ਅੜ	أَرْ
ਹਮ	ہُمْ	ਦੁਖ	دَبْ
ਕਚ	جُجْ	ਦਰ (ਜਗਹ)	دَرْ
ਕਰ	بُرْ	ਕਮ	كَمْ
ਕਡ	بُرْطُ	ਦਮ	دَمْ
ਪਡ	پُرْطُ	ਦਲ	دَلْ
ਨਗ	نگْ	ਡਰ	دَرْ
ਨਟ	تُٹْ	ਡਸ	ڈَسْ
ਨਮ	نمْ	ਰਟ	رَطْ

आ = ā

अलिफ पर ऐसा ‘~’ निशान
लगा देने से इसकी आवाज़ **दो**
अलिफ के बराबर या “आ” के
बराबर हो जाती है।

मट **केवल** अलिफ पर लगता है।

आ = ā

ā = i + i

आपा
(बहन)

آپا

आलू

الو

आटा

آٹا

आता

آتا

आना

آئا

आकर

آکر

आवाज़ آواز

आजा

آجا

आलाम
(दुःख)

आसमान

آسمان

ہمزا = ﻭ

ہمزا کے ویبھیٹر رूپ । مختصر فارم

راج



کو

گو

راہج (سامانی)

جڑ

گو

آئی



غائب

(یہاپی، گند)

آई

گایب (گایب)



دو الیف اک ساتھ آیے تو دوسروں

الیف کی جگہ پر **ہمزا** لگاتے ہیں ।

آئی = ای + آ

آؤ = او + آ

آई

آओ

آئی = ای + آ

آइں

کھاؤ	بناؤ	پاؤ	لاؤ
خاओ	بنાଓ	પાવો	લાଓ
ٹાઈ	માઈ	ક્હાઈ	લાઈ
ટાઈ	માઈ	ખાઈ	લાઈ
જાଓ	આଓ	પાઈ	આઈ
જાओ	આओ	પાઈ	આઈ
چાય	ક્હાય	પાયે	લાય
ગાઇએ	ખાએ	પાયે	લાએ
گાઈએ	બનાયે	ક્હાયે	લાયે
ગાઇએ	બનાઇએ	ખાઇએ	લાઇએ

آئے	جائے	آتے	جائے	آئے
جائے	آए	جائے	آئے	آئے
آئی	چارپائی	او	گاؤ	
آئی	چارپائی	آओ	گاوم	آتے
آئیں		آتے	چائے	
آئے		آए	چائے	آئے
جائے		روئے	سوئے	
جائے		روئے	سوئے	سائے
مُمبئی		دوائی	جاۓ	
مُنْبَرٍ		دَوَائِی	جاۓ	جاۓ

ہمزا = ڻ

گئی

گई

شئے

نए

رانج

کئی

کई

گئے

گए

جائے

تیس

تےئےس

تمئی

مئے

غائب

پ्रचالیت جاے/وےدھ گاے/وےدھ



Learn Fruits and
Vegetables



Arabic alphabets
and 6 kalimas



Noorani Qaida in
English

4.5 ★

ہمزا = ﻭ

کبھی-کبھی سिर्फ اک الیف کی
جگہ پر بھی **ہمزا** استعمال ہوتا ہے।

کو + ای = کوئی

سو + ای = سوئی

کو + اई = کوئی

سو + اई = سوئی

ہو + اے = ہوئے



ہو + اے = ہوئے



سو + اے = سوئے

سو + اے = سوئے

سو + ای + اے = سوئی



سو + ای + اے = سوئے

ہم-ڈا = مر ۶



ہو + ای + اے = ہوئے

ہو + ٹھ + ٹھ = ہوٹھ

جا + او + س = جاؤں



جا + ان = جان



جا + اے + س = جائیں

جا + ان = جان

کھا + او + س = کھاؤں



کھا + ان = کھان



کھا + اے + س = کھائیں

کھا + ان = کھان

ہمزا = س

پئیں

پیएं

سوئیں

سوئے

کھائیں

کھائے

جائیں

جائے



کھاؤں

خواں

جاوں



خاون

جاون

کبھی-کبھی ہمزا 'ي' 'इ' یا 'ए'

کی آواز دلتا ہے ।

راઇج

(س्थापیت)

رانج

अजाइब

(چمٹکار)

عجائب

خواہف

(भयभیت)

خائف

نایب

(उप-سہایک)

نایب

سایل

(بھیخواری)

سائل

فایدہ

فائدہ

مائیل

(آکریتی)

مائیل

دایرہ
(وڑت، گھر)

دارہ

ی ۔ ۴ = ۵

उट्टू में **ई** की माला की जगह पर
ی ۴ और इसका ۵ निशान
इस्तेमाल किया जाता है। पूरी
शब्द लफ़्ज़ के आखिर में लिखते
हैं।

جی ۔ دی ۔ گھی
ঘী দী গী

ہاثی ۔ ساٹھی ۔ ناچی ۔ ناپی
ساثی ۔ ساٹھی ۔ آری ۔ آری

ی ڦ = ڻ

پانی	پانی	دائری	ڈرٹی
چرخی	چرخی	رانی	رانی
کاشی	کاشی	شاہی	شاہی
بکھری	برنی	نامی	نامی
ساتھی	ساتھی	برساری	برسی
کاپی	کاپی	سردی	سردی
بیوی (مہلہ)	بیوی	گاڑی	گاڑی
دالڈی			
راں			
شادی			
نامی			
برسی			
سردی			
گاڑی			

ی ی = ی

‘आधी شکل’ जो हकीकत में निशान
है, لफज़ के बीच में लिखा जाता है।

میل	میل	ریل
نیچا	نیچا	نیلا
شیشی	شیشی	زین
خیر	کھیر	چیل
امیر	امیر	سلیم
تیر	تیر	پیر (سومवار)

उ - ۹ = ۰

उद्दू में उ की माला की जगह
पेश का इस्तेमाल होता है।

उ ۹

जु ۰ ج

तुक	بک	दुम	دُم
सुन	سُن	गुम (खोया)	گُم
तुल	تُل	चुग	چُگ
(पाने की कोशिश करना)			
उस	اُس	खुर्मा	خُرمَہ
उग	اگ	मुग्गा	مُرغا

ਤ - ٹ = ٹ

ਝੁਕ	رُک	ਪੁਲ	پُل
ਮੁਚ	مُجْ	ਬੁਤ	بُت
ਸੁਮ	سُمْ	گੁਲ	گُلن
ਸੁਧ	سُدھ	ਗੁਡ	گُڑ
ਝੱਤ	رُت	ਖੁਪਾ	کھپا
(ਮੌਸਮ)		ਤੁਮ	تُم
ਕੁਟਾ	کُرتਾ	ਤੜ	أُڑ
ਕੁਨ	بُن	ਚੁਪ	چُپ

ऊ - ۹ = ۹

उट्टू में **ऊ** की माला की जगह पर
وُ इस्तेमाल होता है। इस निशान
को '‘पर उल्टा पेश’ कहते हैं।
यह माला की शक्ल में हुरूफ़ के
आगे लगाते हैं।

जू **جوُ**

टू **ٹوُ**

बूट **بوٹ**

بू (गंध) **بوُ**

खून **خون**

لू **لوُ**

सूत **سوت**

चूहा **چوہا**

و = ۹ - ۵

بھول

بھول

دھر

دور

پھول

پھول

پورا

پورا

धੂਪ

دھوپ

ڈٹا

ٹوٹا

झੂਠ

جھوٹ

سُلی
(فانسی)

سوی

گودا

گودا

مُلی

موی

جوتا

جوتا

خونی

خونی

چونا

چونا

چاکڑ

چاکڑ

ए - ' = ۽

उर्दू में 'ए' की **माला** की जगह पर ۽
या इसका निशान ۽ इस्तेमाल करते
हैं। यह हरूफ के आगे लगाते हैं।
इसकी दो शक्ल हैं।

पूरी शक्ल जो लफ़्ज के आखिर में
लिखते हैं। जैसे

بُنے

بُونے

کُٹے

لिखे

تُجھے

تُझे

کُمْ

उठे

مُجھے

مُझे

کے

बिके

سُنے

سُने

لُٹے

لुटे

ए - ' = ے


پڑھتے گرے سامنے پڑھتے

پیٹے سامنے گیرے ہے

نोट:- ے جب لفظ کی شکل میں استعمال ہوتا ہے جب اسے 'ي' مانا جاتا ہے لیکن مالا کی شکل میں 'ए' کی مالا مانتے ہیں।



Learn the Birds



Urdu Qaida Part 3
(Stories)



Urdu Qaida Part 2

ے - ے = ٻ

‘آধੀ ਸ਼ਕਲ’ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਹੈ, ਲਫੜ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ।

ਦੇਨਾ

دینا

لੇਨਾ

لينا

ਭੇਜਾ

(ਭੇਜਨਾ)

بھیجا

ਨੇਕ (ਸਜਨ)

نیک

ਤੇਜ਼

(ਤੀਵ੍ਰ)

تیز

ਮੇਜ਼

میز

ਪੇਡ

پڑ

سےਵ

سید

ਰੇਲ

ریل

سੇਠ

سیدھ

ਕੇਰ

گیر

ਤੇਰਾ

تیرا

ے - ی = ہ

دے�	دکھ	خेत	کھیت
کےلा	کیلا	لےکن	لیکن
چلा	چیلا	تلہ	ٹھیلا
تل	تیل	رے�ا	ریخا
مےل	میل	بےٹا	بیٹا
مेरا	میرا	जےب	جب
شےर	شیر	دےर	دیر
بےٹا	بیٹا	لےٹا	لیٹا

ऐ - ے = ی ے

उर्दू में ‘ऐ’ की माला की जगह पर ے
एक खास निशान के साथ ے
या इसका निशान ۔ ے इस्तेमाल होता
है। यह माला हुरूफ़ के आगे लगाते हैं।
इसकी दो शक्ल हैं।

‘पूरी शक्ल’ ے जो लफ़्ज़ के आखिर
में लिखते हैं। जैसे

لے से वे के थे ने
लै सै वै कै मै नै
बे हے रे ए جे
बै है रै ऐ जै

ے - ے = ے

‘آধی شکل’ جو ہकیکت مें نیشان
ہے، لفظ کے بیچ مें لی�ا جاتا ہے۔

چن (شاںٹ)

چین

بےर

بیر

نےں

نین

خےर

خیر

بےل

بیل

پےر

پیر

تےراک

تیراک

کےڈ (کاراواس)

قید

مےنا

مینا

سےر

سیر

ओ की مالا - ۹ = ۹

उर्दू میں “**ओ**” کی مالا کی جگہ پر

و کا اس्तेमाल ہوتا ہے । اسے ہ魯ف
کے آگے لگاتے ہیں । **जैसे ہو شو**

شو ہو

گول

مانو

انو

ڈول (بالتی)

لولٹا

لوٹا

پढ़ो

سُوچ

سوچ

شور

مُوتی

موتی

خول (खुला)

घوڑا

گھوڑا

ओ की مالا - ۱ = ۹

जोत	جوت	भोला	بھول
ठोکर	ٹھوکر	धोखا	دھوکا
होश	ہوش	रोटी	روٹی
लिखो	لکھو	مُور	مور
ओس	اوس	बोला	بولا
झोल	جھول	छोڈا	چھوڑا
ढोल	ڈھول	थोड़ा	تھوڑا

औ - ة = ۹

उट्टू में औ की माला की जगह पर
‘एक चिन्ह –’ के साथ इस्तेमाल
होता है। इसे **हुरूफ़** के आगे
लगाते हैं

کو کو کو جو تو او سو
سے اُم نے جو لے کے پا

رِئِنْكَ (چکا چوئی) رُونْتَ لَوْتَ کَوْنَ

بُورَ (बौर आना) بُورَ کَوْنَ کَوْنَ

اوی - ۹ =

دُولت	دَوْلَت	دُور	دَوْر
نُوكِر	نَوْكَر	کُلےِ ل	قُول
اوِر	أَوْر	دُوڈھ	دَوْرُطْ
پُدھا	پُودا	جُلےِ ر	غُور
(پُدھا)			
سُدھا	سَوْدَا	چُمک	چَوْك
يُوم	يَوْم	مُسَم	مُوسَم
(دِن)			
کُوم	قُوم	شُوكت	شَوْكَت
کُوم		(دُمِدَام, گاریما)	
فُوج	فَوج	مُوت	مَوْت

नूनगुन्ना

उट्टू में **चन्द्र बिन्दु** और **बिन्दु** की जगह पर “नूनगुन्ना” (ੴ) का इस्तेमाल होता है। नूनगुन्ना की आवाज़ नाक से निकलती है नूनगुन्ना तथा नून में फ़र्क केवल इतना है कि नून के पेट में बिंदी होती है (ੴ) जब कि नूनगुन्ना का पेट खाली होता है। नूनगुन्ना अक्षर के आगे लगाते हैं। **नूनगुन्ना** की दो शक्ल हैं।

نونگुन्ना

(1) نونگुن्ना की पूरी शकल **ں** जो
لفज़ के आखिर में लिखते हैं।

یہاں

جہاں

کہاں

�हाँ

जहाँ

کहाँ

وہاں

خال

ہاں

वہाँ

خواں

ہاں

ہموں

ہوں



Noorani Qaida in
Hindi (audio)



Urdu Qaida Part 5
AUDIO



Learn the Animals

نونگۇنغا

راتے	راتیں	باتے	باتیں
پढئے	پڑھیں	چلئے	چھلوں
پانچ	پانچ	آنکھ	آنکھ
مۇڭ	مۇنگ	جاڭچ	جاڭچ
گۈز	گۈز	بۇند	بۇند
لەن	لېيىن	هېن	هېن
چالەن	چلىيىن	لىخۇن	لىخۇن
دەنت	دەنت	سۆپ	سۆپ

نूनगुन्ना

سنس سانس
فانک پھانک
میں میں
لیکھے لکھیں

ڈاٹ ڈانٹ
بندھ (گانڈ)
اینٹ
آندھی آندھی

अगर नूनगुन्ना के बाद **ب** का इस्तेमाल होता है तो नूनगुन्ना की आवाज़ **मीम** की निकलती है।

گونبد گنبد
امبار عنبر
(मोम सहश सुगंधित पदार्थ)

کومبا کونبہ
دومبا (भेड़)
دُنبہ

ي

ઉર્દૂ મેં કુછ લપજ એસે હૈને જિસકા
આખિરી હુરુફ **ي** યા **ے** લિખા જાતા
હૈ ઔર ઇસ પર અલિફ ભી લગા દેતે હૈને।
ઇસ ટાઈપ કે અલિફ વાલે **ي** તથા **ے**
કેવળ અલિફ કી આવાજ દેતે હૈને।
ઔર **ي** યા **ے** ખામોશ રહતા હૈ।

مُصطفىٰ موسىٰ مُرتضىٰ

مُرتजَا مُوسَا مُسْتَفْنَا

(હજરત અલી કી ઉપાધિ)

(મુહમ્મદ કી ઉપાધિ)

عيسىٰ ادُنْ علیٰ

ईસા અદનَا આલَا

(હીન)

(બેહતર)

ي

ي هر فک تथا مالا دو نوں روپ مئے^ي
इस्तेमाल होती है।

گیان

کیا

کیوں

ज्ञान

क्या

ग्यारह

क्यों

نیوالا

پیار

بیاہ

न्योला

घ्यार

ब्याह

(نکुल)

پیاس

بُوبار

(विवाह)

घ्यास

ब्योपार

(व्यवसाय)

ی

जब किसी लफ़्ज़ में “ये” ی-ی पर तशदीद हो तो ی की पहली आवाज़ ‘इ’ और दूसरी आवाज़ ‘य’ होगी। किन्तु हिन्दी में ‘इ’ की जगह **ऐ** लिखा जाता है।

ہندی میں	شब्द	उच्चारण
کنھے	کنھیا	کنھی
سے ی د	سید	سید
تیار	تیار	تیار
نے یا	نیا	نی
भے یا	بھیا	بھی

छोटी हे ۱

۱ की चार शक्लें हैं।

۱

۲

۳

۴

بھولابھا

دانہ آنہ

ہائی شہر

تازہ کمرہ

अंत

मध्य

आरंभ

جگہ
जगह

نہ
نہर

ہل
حل

खेत जोतने का औजार

حل

سما�ान

लफ्ज के आखिर में आने वाले छोटी हे के नीचे आने वाले हुक का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

ک
کि
के

ک
کہ
کह

छोटी हे ۱

छोटी हे का ‘अ’ के तौर पर इस्तेमाल

نَانَهُ
عَمَدَهُ
نَخْمَهُ
پَرَدَهُ

उम्दा
नग़ामा
पर्दा
नाग़ा

(उत्तम, वांछनीय)

(गान)

(अंतराल, अनुपस्थिति)

छोटी हे का ‘ए’ के लिए इस्तेमाल

چُنَانِجُ
چُنَانِجُ
اگرچُ
अगरचे

तो

(यद्यपि)

کٽ
بَلَكَهُ
ताके (इसलिए)
बल्के (किन्तु)

छोटी है ۱

قلعہ

کلیسا (دُرگ)

ہمیشہ

ہمہ شا

افریقہ

افریکا

بلکہ

بلکی

عنچیٰ

کلی

ناغہ

ناگا

(کام سے گئر
ہاجیر ہونا)

لغہ

گانا

عہدہ

اوہدہ
(پد)

ذریعہ

ڈریخ
(ماڈھم)

اگرچہ

ہالائیکی

عہدہ

بٹھیا

و

(ک) اردو کے کुछ لفاظ اپنے ہیں جیسکا
و لیکھا جاتا ہے کیونکہ پढ़نا نہیں
جاتا ہے । یہ و اکسر خ کے بाद
آتا ہے ।

خوراک

خُوراک

(भोजन, پोषण)

خواہش

خُواہش

(�च्छा)

خواب

خُواب

(سپنا)

خورد

دستِ خوان

خوش

خُورڈ

دُسْتَرِ خُوان

خُوش

(نیم، سُوكھ)

(مےڑپوشا)

خوشی

خُوشی

خود

خُود

خوبی

خُوبی

خواجہ

خُواجہ

(گورو، سُوامی)

۹

خورشید
खुशीद
(सूरज)

شخواہ
تనخواہ
(वेतन)

درخواست
دراخواست
(आवेदन)

عضو
अङ्ग
(भाग, अंग)

لغو
لگाव
(बेतुका, फालतू, निराधार)

نحو
نہవ
(व्याकरण)

(خ) و دो شब्दोں کو میلانے کے لیए بھی پ्रयوگ ہوتا ہے۔ اسے افسوس پر و کی آواز ”اوے“ نیکلاتی ہے۔

دلو جان
دیل-اوے-جان
دیلو-جان

شان و شوکت
شان-اوے-شوکت
شانو-شوکت

علم و دولت

خرید و فروخت

خواریگو-پرورش

آمد و برگشت

آمادگی-ریاست

مال و اسباب

مالو-اسباب

عجیب و غریب

اجیکو-گاریب

کم و بیش

کمبو-بیش

ilm-o-dailat
ilm-o-dailat

آب و هوا

آبیه-هوا

خط و کتابت

خطو-کتابت

درزو-غم

دندو-گام

شب و روز

شکو-روز

شام و سحر

شامو-سحر

فِي الْفَوْرِ

कभी-कभी अलिफ़ के ऊपर दो ज़बर (ً) लगे होते हैं। इनकी आवाज़ “नून” (ن) की निकलती है तथा इनका **अलिफ़** नहीं पढ़ा जाता है।

فُورًا	تَقْرِيبًا	رَسْمًا	أَنَّا فَانَّا
فُورन	تکریب	رسمن	آنن-فانن
(तुरंत)	(लगभग)	(रुद्धिजन्य)	(जल्दी से)

مجُوراً = ً + مجُور

مَجْبُورَن = مَجْبُور + ان

إِنْفَاقًا	أُصْوَلًا	إِحْتِيَاطًا	إِنْفَاقًا
इत्तफाक्न	उसूलन	एहतियातन	इत्तफाक्न
(अनैच्छिक)	(सिद्धांत)	(सतर्कता)	(अनैच्छिक)

فِي الْفَوْرِ

عُمُوماً
اممومان
(سامان्यतः)

يَقِينًا
যকীনন
(নিশ্চিত রূপ সে)

شَبَّ وَرُوزٌ
ଦିନ-ରାତ

إِنْفَاقًا
সংযোগ সে

احْتِيَاطًا
সাবধানী কে লিএ

خُصُوصًا
খুসূসন
(খাসতার সে)
مَثَلًا
মসলন
(उदাহরण के लिये)

تَقْرِيبًا
তক্রীবন
(লগভগ)
فُورًا
ফৌরন (তুর্ত)

آب وَهَوَا
জলবায়ু
آمد وَرْفَت
আবাজাহী
আনা-জানা

خَطُوكَتَابَت
পত্রচার

فِي الْفَوْرِ

مال و أسباب
سَامَانٌ

كم و بيش

لگا�گ

درخواست

پراڻنالاپل

نحو

વ्याकरण

لغو

بکواس

آی خواه

أُصُولًاً

مُूलतः (वास्तव में)

تقریباً

لگاٻگ

خُصُوصاً

ویژہ رُپ سے

مشمراً

उदाहरण कے لिए

یقیناً

نیسندھ

سُورَ سُورشید خورشید

झं

ঁ অক্ষর ফারসী কা হৈ। ইসকা উচ্চারণ
অংগেজ়ী কে Treasure, pleasure আদি
শব্দোঁ কে “su” কী তরহ করনা চাহিয়ে।

مِرْثَگَال

মিঝগাঁ

(পলকে)

مُشْدَه

মুঝদা

(আশ্র্য, খুশখবরী)

اژدہ

অঝদহা

(অজগর)

ٻ ٻ

અંત

મધ્ય

આરંભ

خط

وَطْن

طاقة

खવત

વતન

تاؤکت

ચિદ્વી

(દેશ)

لُفَطٌ

نَظَرٌ

نام

લફ્જ़

نَذْرٌ

ज़ालिम

نَظَرٌ

ٹپن

نَذْرٌ

تीن

(હાણી)

મિદ્વી

نُقطٌ

نَاهِرٌ

علط

નુક્કતા

જાહિર (પ્રત્યક્ષ)

ગાલત

ٻ ٻ

حفاظت

ہیپکاڙات

(سुرक्षا)

دستخطر

دستاخvet

ہستاڪر

وطن

ماتृ�می

(دेश)

انظام

इتڄام

(વ्यवस्था)

طریقہ

تاریکا

حفاظت

سुرک्षا

لُفْظ

شब्द

تلفظ

تلپڈپُڻ

(उच्चारण)

خَطَرَنَاك

खतراناک

ظالم

کُور

ڻ

अंत

ٻڌڻ

مध्य

اندھا

आरंभ

ڊڻ

بُوڏ

اندھا

ধন

رادرھا

مونڈھا

ڏھول

راڻدا

مُونڈا

ٺول

مُمحج

بُجھنا

جھنڈا

مُڪش

بُلڙنا

ڇڙڻدا

رپکچ

بُچھڑا

چھڑی

ریڻ

بُچڙا

ڻڙی

ੴ

अंत

بڈھ

मध्य

اندھا

आरंभ

دُصْن

پنکھ

پنکھا

کھیڑ

پंख

پंखا

خوار

سو، نگھ

کنکھا

گھڑی

سُੱਘ

کنڈا

घડੀ

چُجھ

گوہی

بھالو

चुभ

گوہی

�الو

ઇજાફત

यह ‘ताल्लुक’ को दिखाता है। जैसे ‘का’
‘ک، کی، کا’ के मतलब को बताता है।
इसे तीन मुख्तलिफ़ निशानियों से
दिखाया जाता है। तीनों निशानियों के
‘ए’ के फार्म में बोला जाता है।

1) ઇજાફત – જેર

पહले લફ્જ કे આખિરી હરુફ કે નીચે
જેર કા નિશાન લગાયા જાતા હૈ।

دِرِدِ دِل دَدْ - دِل دِل کا دَد

عَرْقِ مَلَبْ

अरक़े – गुलाब
(गुलाब जल)

مَوْجِ درِيَا
मौजे – दरया
(पानी की लहर)

ઇજાફત

شاخِ گل

شاخے – گول

(फूल کی تہنی)

شمعِ محفل

شامے – مُھفِیل

(سभا مें प्रकाशमान मोमबत्ती)

پیاری دل

بیماری – دل

(دل کی بیماری)

رازِ دل

رَاجِه – دِل

(دِل کا راج)

اطلاعِ عام

ઇتھلائے – آم

(سامانی घوषणا)

خوبی قسمت

خوبی – کِسْمَت

(سُبھاگ)

کُرسی صدارت

کُرسی – سدارت

(अध्यक्षता)

ઇજાફત - હમ્ઝા

نَعْمَمُ شَادِي
نગમએ - શાદી
(હર્ષિત ગીત)

شادی کا نغمہ
શાદી કા નગમા

قَطْرَهُ خُون
કતરએ-ખૂન
(ખૂન કી બુંદ)

جَذْبَهُ دِل
જજ્બએ-દિલ
(દિલ કા જુનૂન)

مَاهِ نُو
માહે-નૌ
(નયા ચાઁદ)

رَاهِ وَفَا
રાહે-વાફા
(વફાદારી કા રાસ્તા)

شَرْطِيْف
શાએ-લતીફ
(નાજુક ચીજ)

بُوْلَهُ غُل
બૂએ-ગુલ

آبَرُو، بَرُو
આબરુએ-વતન

صَدَائِيْ وَطَن
સદા-એ-વતન
વતન કી સદા

سَرْزَائِيْ مَوْت
સર્જાએ-મौત

अलिफ़-लाम का इज़ाफ़त

अलिफ़ लाम को न बोलना

دارُ السَّلْطَنَت
दारुस-सल्तनत

सल्तनत की राजधानी

عبدُ اللَّه
अब्दुल्लाह

(भगवान का सेवक)

نِظامُ الدِّين
निज़ामुद्दीन

अलिफ़ को न बोलना और लाम को बोलना

دار + اں + حکومت – دارُ حکومت

दारुलहुकूमत – हुकूमत + उल + दार

हुकूमत की जगह (राजधानी)

بَيْنُ الْأَقْوَامِ
बेनुल-अक्वामी
(अंतरराष्ट्रीय)

عِيدُ الْفِطْر
ईदुल-फ़ितर

أَبُو الْكَلَام
अबुल कलाम

حَسْنَى الْإِمْكَان
हस्तल ईमकान
(संभवतः)

ઇજાફત

بِالْكُلِّ

بِلِكُلٍّ
بِلِكُلِّ

بِالغَرْضِ

بِلِغَارْجَزِ
(جانبِ جذب)

اطلاع عام

سَارْવَاجَنِيكِ سُوْچَنَا

بِيمَارِيِ دِلِ

دِلِ الْكَوْكَبِ

خُوبِيِّ قِسْمَتِ

أَصْحَى كِسْمَاتِ

بِالْأَرَادَه

بِلِإِرَادَه
بِلِإِرَادَه

(جانبِ جذب)

بِالْخُصُوصِ

بِلِكُلِّ سُوْسِ

(فيَشِيشِ رُوْپِ سے)

بِالآخِرِ

بِلِآخِرِ
بِلِآخِرِ

(آخِيرِ كَارِ)

بِالْجَهْرِ

بِلِجَهْرِ

(جوَرِ جَبارَدَسْتِي)

رازِ دِلِ

دِلِ الْكَوْكَبِ

مَوْجِ درِيَا

دِرِيَا كَيِّ لَهَرِئِ

شَاخِ كُلِّ

فُولَوْنَ كَيِّ دَالِي

عَرْقِ گلاب

گلاب جال

شمعِ مخلف

آکار्षण کا کेन्द्र

راہِ وفا

وफہ کا راستا

ماہِ نو

نیا مہینا

صدائے وطن

وطن کی آواز

ابتدائے عشق

پرم کا آرامش

قطرہِ خون

خون کی بُوندھ

بندۂ خدا

خودا کا بندۂ خدا

آبرو، یہ وطن

دesh کی iجھات

سزا یہ موت

مُوت دنڈ

بین الاقوامی

امت راسخی

عید الفطر

ईد (एک تھوہر)

एक जैसी आवाज वाले लफ्ज

نقطہ / نقطہ

نुक्ता / نुک़تہ
बिंदु (तर्क में बिंदु)

خان / کھان

خوان / خوان
(خداں)

خول / کھول

خوَل / خوَل (आवरण)

نجم / نجُم

तारा कविता

بازی / بازی

बाजी / باجی

बहन / प्रतियोगिता

خال / کھال

خواں / خوان
त्वचا تیل

خانہ / کھانا

خوانا / خوانا
(घر)

خار / کھار

خوار / خوار
خاراپن کاؤٹا

راز / راج

राज / راج

(शासन) (गुप्त)

سےزا / سجا

سजा / سज़ा

विभूषित / سجَا

एक जैसी आवाज वाले लफ्ज

ڈال / جال

जाल / ج़ाल

फंदा / بُوچُرْग

گھ / گز

گज / گڈ

बड़ा, हाथी / مَاءِ دَنْدَل

ساغر / ساگر

سماں / سماں

سمون्दर / شراب کا
پیالا

بازی / باجی

बाजी / بाज़ी

बड़ी बहन / خेल

زنگ / جنگ

जंग / ج़ंग

یوڈھ لोہے پے لگانے वाला

زن / جن

जन / ج़ن

کمر / قمر

کمर / کمर

चाँद / پीठ, کمर

گل / غُل

شُور / فُول

گुल / گُول

एक जैसी आवाज वाले लफ्ज

کَوْل قول

جَلِيل جلیل

کُول کول

जَلِيل جلیل

کथن **उपनाम**

مَهَان تُعَظِّم

زن جن

تُعَظِّم تُعَظِّم

ज़ن جن

مहिला **व्यक्ति**

تِينِ طین

مُقرر مُقرر

تِينِ طین

مُكَرَّر مُكَرَّر

تीنِ تीن

نیوکت **दोहराना**

مِدْعَى میڈی

قدَم کَدَم

نَظَر نظر

کَدَم کَدَم

نَظَر نظر

پا, یوڈھ **فُل**

نَظَر نظر

शरीर के अंगों के नाम

सिर

سر

बाल

بال

पेशानी
(मस्तक)

پیشانی

कान

کان

आंख

آنکھ

नाक

ناک

मुँह

منہ

کمر

کمر

ज़बान

زبان

हाथ

ہاتھ

गर्दन

گردن

पैर

پیر

گلہ

हथेली

ہٹھیلی

گلہ



ਤੁੰਗਲੀ	اُਨਗلੀ	آਂਤ
ਪਸਲੀ	پਸلی	دانਤ
ਬਗ਼ਾਲ	بغل	چੀਰہ
ਪੇਟ	پੱਥ	تاُلو
ਬਾਜੂ	بازو	حلق
ਕਲਾਈ	کلائی	سینہ
ਨਾਖ਼ੁਨ	ناਖن	کਲੰਬ
ਅੰਗੂਠਾ	انگوٹھਾ	جانਕھ
ਟਖਨਾ	ٹੱਖਨੇ	ਪੰਡ੍ਹਲੀ
ਫੇਫੜਾ	پੱਖੀਸੇਪੁੰਡਾ	دਮਾਗ

انگریزی مہینے

جنवاری

جنوری

جولائی

فراوری

فروری

اگسٹ

مارچ

ماچ

ستمبر

اپریل

اپریل

اکتوبر

مئی

مئی

نومبر

جون

جُون

دسمبر



दिनों के नाम

الْتَوَارِ

इतवार

سُبْرَ

पीर

مِنْجَل

मंगल

بُدْه

बुध

جَمْعَرَات

जुमेरात

جَمِعَه

जुमा

سِنْجَرَ

सनीचर

�ر کی وسٹوں

چیراگ

چپ راغ

گیلہاس

گلاس

چکی

چھپی

چیالی

پیالی

ٹوکری

ٹوکری

ڈاڈو

جھارڈو

ईधن

ایندھن

سیل

سل

घड़ा

کھڑا

مٹکا

مٹکا

چمچ

چمچ



टब

ٹب

کفگیر

کفگیر

ڈکنا

ڈھکنا

چولہا

چوڑا

थال

تھال

دےڑاچی

دیپکی

انگیठی

نگیٹھی

رکابی

رکابی

کلسا

کلسہ

سالا

پیالہ

پرات

پرات

کٹوری

کٹوری

چاؤ



چاکو

વ्यापारिक

राज

رائج

ज़ाज़

زاز

लुहार

لوهار

کیسان

کسان

सुनार

سُنار

کُلی

قلی

बढ़ई

بڑھی

جُلाहا

جولاہا

बावरची

باورچی

رंगरेज

رنگریز



વ्यापारिक

गड़िया گڑریا

अत्तार

عطار

नाई نائی

خوشنویس

जौहरी جوہری

एडीटर

ایڈیٹر

पन्सारी پنساری

حلوائی

हकीम حکیم

घड़ीसाज

वकील وکیل

ڈاکٹر
ডॉक्टर



जानवर

गाय

गांडे

बकरी

بکری

बैल

بیل

शेर

شیر

खच्चर

خچر

घोड़ी

گھوڑی

बारहसिंगा

بارہ سنگھا

भालू

بھالو

ہرنی


ہیرنی



جانوار

گدھا

گڈھا



घوڑا

گھوڑا

ہاتھی

ہاتھی



چیتا

چیتا

بندر

بندر

भےڈیا

بھےڈیا

کوٹا

کوٹا

چیل	چیل	کبھوتار	کبوتر
فراختہ	فاختہ	چمگادڑ	چمگاڈر
بیا	بیا	مُرغا	مرغنا
باز	باز	کوئیوا	کووا
بٹر	بٹر	تُوتا	طوطا
کویل	کویل	उللود	أُلو

بُطخ

بतخ



مکھی

مکھی

بھائیوا

بھونزا

جُوں

جُوں

مکडی

مکڑی

دیمک

دیمک

झینگر

چینگر

اجگار

اجگر

مچلی

مجھلی


ٹڈی

ٹکڑی



چیڈیا

مور
مُور



مُرگاہی

مُر غابی

پپیہا

پپہا

چکوڑ

چُکور

سارس

سارس

تیتار

تیتیر

نیل کنٹھ

نیل کنٹھ

بُول بُول

بُلبل

ہنس

ہُنْس



पशुओं की बोलियाँ

दहाड़ना

دھارنا

गुर्ना

غُرّانا

चूं चूं करना

چُوں چُوں کرنا

गुटरगुं करना

غُرٹ غوں کرنا

हिनहिनाना

ہنہنہنانا

भौंकना


بھونکنا

कायं कायं
करना

کائیں کائیں کرنا



روگوں کے نام



سیر دُرد سر درد

بُخَار بخار

پِچیش پچس

دُمَا دمه

دانت درد دُرد

پِت دُرد پیٹ درد

کھانسی

دَاد داد

زکام

پُثُری پتھری

بواسیر

چاچان چھاجن

پھوڑا

چِچک چچک

ناسُور

کان کان کا درد کان کا درد

قبض کبّل

औषधियों के नाम

الاچ्ची
इलायची



अम्बा हल्दी

امباہلدي

कबाब चीनी

کباب چینی

कायफ़ल

کافل

ज़ाफ़रान

زعفران

गावज़बा

گاؤزباد



جاॅफ़ل
ज़ायफ़ल

پھٹکری

خاطری

عقر فرحا

عناب



फ़िटकरी

खतمی

अक्करक्करहा

उन्नाब

मुन्डी

مُنڈی

मुल्हटी

مُلہٹی

रसौत

رسوت

लोंग

لوںگ



چندن

گرہ

چیراٹا



چندن

گرہ

چیراٹا

جاوتڑی

بنسلو چن

پینگ

جاویلی

بُنسالو چن

ہینگ

نیلو فر نیلو فر

لہسوارے لہسوارے



शहरों के नाम

अजमेर

اجमियर

बारहबंकी

بارہ بنکی

कलकत्ता

کلکत्ते

देहरादून

دہرہ دوون


آگ्रہ

आगरा

बनारस

बिजनौर

देल्ही



जयपुर

جے پور

जमालपुर

جمال پور

कपूरथला

کپور تھلہ

मथुरा

متھرا

नागपुर

نگ پور

पूना

پونہ

रायपुर

رائے پور

लखनऊ

لکھنؤ



علی گڑھ
اللیگڑھ

کالیکٹ

دھامپور

گور کھپور

بینڈرا ون

بیکانےر

کانپور

بندرابن

بیکانیر

کانپور

کالیکٹ

دھامپور

گورکھپور

اممودتھر

امر تسر



جبلپور

جونپور

کرنال

जबलपुर

जैनपुर

करनाल

खण्डवा

فرخخاںباد

مُردادباد

پٹسنه

پٹنا

کھنڈوہ
فرخ آباد
مراد آباد

نینی تال
نئیتال



رائے سنگھ نگر

سہارنپور

الہ آباد

پیلی بھیت

فرازیلکا

پانیپت

فیروز آباد

رایسینگ نگر

سہارنپور

یلالاہباد

پیلی بھیت

فاضلکا

پانی پت

فیروز آباد



شیملا

شیملا

گونڈا

الپدھیا

ہاتھر س

ہر دوئی

اٹارسی

چندوئی

حیدر آباد

ہدرا باڈ

गोंडا


अयोध्या

हाथरस

हरदोई

इटारसी

चन्दौसी



گورداسپور

گرداسپور

ہریدار

غازی پور

گاڑیپور

انڈور

اندور

ہاونڈا

جوधپور

سُورت

سُورت

جودھ پور

شری نگر

شہری نگر



रिश्तेदारों के नाम

पिता

پتا

माता

ماں

बाबा

باپا

दादी

دادی

नाना

نانے

नानी

نانی

चाचा

چاچا

चाची

چاچی

मामा

مماں

ममानी

ممائی

भाई

بھائی

बहन

بہن

पति

پتی

सास

ساس



سسر

سُسمر

بھتیجا

بھتیجا

بٹی

بُٹی

بھانجا

بھانجا

بھانجی

بھا نجی

بھنورے

بھنوری

بھتیجی

بھتیجی

سالی

سالی

پوپی

پھوپی

خواں

خالہ

سالا

سالہ

بٹا

بیٹا



फल



شربت

शरीफा

अंगूर

انکور

बादाम

بادام

आम

آم

अमरुद

امرود

अनार

آنار

अंजीर

آنچیر

मिठा

مٹھا

چीز

बेर



فَل

آخر وٹ

अखरोट

ناریل

चुकان्दर

کیشامیش



سےب

خجور

سیب

کھجور

موگ پھلی

مُنْجَافَلِي



فَل

इमली

إِمْلَى

नीबू

نیبو

नारंगी

نارنگی

शफ़तालू

شفتالو

शहतूत

شہتوت

تربوچ

تریبوز

खरबूज़ा

خربُوزه

नासपाती

ناشپاتی

आलूचा

آلوجہ

کेलا

کیلا

खीरा

کھیرا

فَلْسَك

फ़ालसे



سبزی�اں

आलू

آلو

کھوڑ

کدو

ਬੈਂਗਨ

بنگن

ਰਤਾਲੂ

ਰਤਾਲੂ

ਗੋਭੀ

ਕੁਝੀ

ਤੌਰੈਈ

ਤੂਰੀ

ਸੋਧਾ

ਸੋਧਾ

ਮਟਰ

ਮੌਤੜ



پਾਲਕ

پਾਲਕ

ਲਹਸੂਨ

لہسن

ਮੂਲੀ

ਮੂਲੀ

ਅਰਖੀ

اروٹੀ

ਸਿੰਘਾੜਾ

سنਕਚਾਰਾ

کرم کلّا
کرم کلّا

رس بھری

رس بھری

سیتا پھل

سیتا فل

ٹنڈے

ٹنڈے

مئی

بیان

شالگرام

خُورفا

میتھی

پیاز

شلغم

خرفہ



फूल



موتا
مُوتا
مُوتا
مُوتا
مُوتا



گلاب
چنپی
گیندا
کمل

سُورج مُھی



مولسری
مولسری
مولسری
مولسری
مولسری

نرگس
نرگس
نرگس
نرگس
نرگس

مसالے

نمک

نِمک

ধনিয়া

دھنیا

লোংগ

لونگ



সোঁঠ

سونٹھ

দারচীনী

دارچینی

সোঁফ

سونف

জ়ীরা

زیرہ



কলৌজী

کلونجی



তেজপাত

تجپات

مसالے

کالی میرچ



کالی مرچ

لال میرچ لال مرچ

ہرینگ

پینگ

ہلکدی

ہلدی

کےسر

کیسر

ڈاٹ فل



جاں کھل

इلायचੀ

الاچھی




अनाजों के नाम

गेहूं گیپوں

चना چنا


चावल چاول

बाजरा



باجڑہ

मसूर



مسُور

अरहर ارہر

उड़द اڑد

آرہر

اڑد

अनाजों के नाम

مونگ

मूँग

दहान

धान

की

मकई

मट्टर

मटर

جو^{جُو}
जौ



लोबिया
لوبیا



जुवार
جُوار

खाने पीने की वस्तुएं

पानी

پانی

शर्बत

شربت

शराब

شراب

दूध

دُودھ

मट्ठा

مٹھا

लस्सी

لیسی

सिरका

سرکے

रोटी

روٹی

मक्खन

مکھن

बालाई



अन्डा

انڈا

मिस्री

شोरबा

شوربہ

شہد	مُرْبَّہ
اچار	حلوا
چای	بُورا
چینی	پکوان



میٹھائی

میٹھائی

شسل اور ہथیار

کےچی

قینچی

گونیا

گنیا

ٹپ

ٹپ

لہا

لوہا

انگشٹا نا

انگشٹا نہ

پرکار

پر کار

رندہ

رَندہ



ہथڈا

ہٹھوڑا

کولھاڈا

کلہڑا

بarma

بِرما

رہتی

ریتی

بڑی

بَھٹی

ڈامبر

زِمْبُور

سُردی

سُوئی



بِلْچَار	بِلْچَار	چِمٹا
دھُونکنی	دھُونکنی	جِمٹا
چاکُ	چا تو	
پیسْتول	پیسْتول	کُدال
بَرَچَی	بَرَچَی	چِھینی
بَندُوك	بَندُوق	بھالا
		
آری	آری	

مکان

چٹکھنی

چٹکھنی



فَرْش

فرش

دروازہ

دروازہ

کمرا

کمرہ

خیڈکی

کھڑکی

دیوار

دیوار

छجوا

چھپے

بُنیاد

بنیاد

پرانالا

پرانالہ



مینار

مینار

गारा

گارا

सीमेन्ट

سیمنٹ


सराय

سرائے

मन्दिर

مندر

बावरची खाना



گرجا

باؤرچی خانہ

مسجد
Masjid



ایٹ



ईٹ

مکان

مکان

الملاماری

الماري

छत

پھٹ

چونا

چونا

खम्बा

کھمبہ

پلستر

پلستر

راج محل

نالی

نالی



राजमहल

وسل سمبندھی شब्द

کپڈا

کپڑا

کمیڈ

تمیض

ধوتی

دھوتی

واسکٹ

واسکٹ



تولیا

دупٹا



دوپٹہ

بنیان

بنیان

رُمال

رُمال

انگوٹھا

اگوچھا

انگیٹھا

انگیٹھا



کمبل

تکیہ

چادر

بستر

مخمل

سرج

مِرْكَمَل

سَرْج

سوئیر

رُوی

لَطَّھا

سَوَيْتَر

رُدِّی

لَدْعَا

فَلَالَّائِن

أُسْتَرا

کَاج

کپاس



أُون

ऊن

دُشَالا

دُشَالہ

لِهَافْ

لِجَافٍ

مَلْمَل

مَلْمَل

سَاتَن

سَأَثْنَ



کوٹ

کوٹ

تُوبَي



پاجامہ

پاجامہ

پتالون

پتالون

چُسْتَر

چُسْتَر

آچِکن

آچِکن

کاشمیرا

کاشمیرا

چولی

چولی

बाजों के नाम

ढोल



बाँसुरी



بَانسُری

نफ़ीरी


نِفِّری

रेडियो

رِیڈیو

बीना

وِبِنا



سَارِنگی



बाजों के नाम



ہار مونیم
ہارمونیयم



سیتار



طبلہ
تبلا



گراموفون
گراموفون



پیانو

�ातुओं के नाम



सुहागा سہاگہ



गन्धक گندھک



पारा پارہ

फौलाद فولاد

शोरा شورہ



सीसा سیسے



जस्त جست



کوئلہ کوئلہ



چاندی چاندی



سونا سونا

لہوہ

پیتل

رانگ

لوہا

پیتھل

رائگ

تانبہ

کانسا

ٹین

تانبہ

کانسا

ٹین

بیللوُر



بلور

فِيلَتْكَارِي پھٹکری

اَبَرَكْ

خَدِّيَا كھڑیا



گِرُو گِرُو

سُورمَا

سُرمه

ہڈتا ل

ہڑتا ل

سَجْجَيٌّ

سُجّي

تُوتِيَا

تُوتِيَا

نُوشادَر



نوشادر

आभूषणों के नाम



haar
mala



بُندے



انگوٹھی



چूड़ा چورा



نथ

आभूषणों के नाम



انٹ
अनन्त



چूड़ियाँ
چورڑियाँ



لَاکिट

रंगों के नाम

लाल

لال



गुलाबी

گلابی



नीला

نیلا



भूरा

بھورا



हरा

ہرما




पीला

پیلا



ज़ाफ़रानी

زعفرانی



आसमानी

آسمانی

سکول سے سambاندھیت

سکول

اسکول

ہائیڈماسٹر

میز

کلاس

سیاہی



نیب



دوات

لائبریری

کلم



سائنس

بھوگول

سنکریت



رجسٹر

انگریزی

فُٹبَال

اخبار



الماری

વڈیफَا

وظیفہ

کالے

کاج

فیبال



ٹینس

ٹenis

پیکش پمائش

محورہ مुہاوارا

حساب

بچے

ہیڈ

فارسی

ڈسک

ڈیک

فارسی

इतिहास

(तवारीख) इतिहास

تاریخ

आज़ादी

آزادی

अमनचैन

امن چین

हुकूमत

حکومت

चुनाव

چناؤ

जदीद (अर्वाचीन)

جدید

बद्रअमनी (अशान्ति)

بدامنی

वज़ीर (मंत्री)

وزیر

सियासत

سیاست

سُلہ

صلح



نیا یا لی

میسٹر	میسٹر	میسٹر	میسٹر
کانون	قانون	سखّت قید	سخت قید
جرم (�पرাধ)	جرم	واریس	وارث
دعا	دعوے	پشکار	پیشکار
مُدْعَى	مُدْعَى	جالسازی	جلسازی
عرضی	عرضی	زیرہ	زیرہ
نوٹس	نوٹس	پٹا	پٹہ
رہن	رہن	فوجداری	فوجداری

فیصلہ	قپضہ
کیل	افراناہ
ناٹش	بھس
گواہ	بیان
اقبال	ضمانت
سمّن	صفائی
بید خلی	جرم
راضی نامہ	ہٹھکڈی
محض تیرد	ہتھکڑی
مہاج کیڈ	

जातियाँ तथा धर्म

ہندو		ہندو	انگریز
مُسلمان		مُسلمان	رشین
سیخ		سیکھ	یونانی
ईسا�		عیسائی	نسل
बोध्द		بوڈھ	چمار
پارسی		پارسی	برہمن
अरबी		عربی	کھڑی
जर्मनी		جرمنی	جیں
कुम्हार		کمہار	जैن




امريکن
آمریکین

آریسماجی

آریہ سماجی

افغانستانی

افغاني



کبیر پنٹھی
کਬیر پنٹھی

برہم سماجی

برہم سماجی

دیو سماجی

دیو سماجی

دادر پنٹھی

دادر پنٹھی

مُسْلِم لड़कों के नाम

सिराज अहमद

سراج احمد

अब्दुस सलाम

عبد السلام

इन्तेखाब

انتخاب

महमूद आलम

محمود عالم

सरफ़राज़

سر فراز

खुदा بख्श

خدا بخش

रसूल بख्श

رسول بخش

हबीब उल्ला

حبيب اللہ

मुस्तफ़ा हैदर

مصطفیٰ حیدر

کمر	قمر	سالیم	سلیم
رفلیکٹ	رفیق	شامیم	شمیم
مومتاز	ممتاز		
وسمیم اختر	واسیم اختر		
جمال الدین	جمال الدین		
کمال الدین	کمال الدین		
اعظم خاں	اعظم خاں		
محمد اسلام	محمد اسلام		
محمد اکرم	محمد اکرم		
مومد ایکرام	مومد ایکرام		

मुस्लिम औरतों के नाम

शहाना

شاہانہ

निदा

ندا

शिफ़ा

شفَّا

यासमीन

یاسمین

फ़िरदौस

فردوس

आफ़रिन

آفرین

हुस्न आरा

حسن آرا

बिलक्कीस

بلقیس

रज़िया

رضیہ



رفعت

रफ़्रत

شہنماز

شہنماز

بے نظیر

بے نظیر

جمیلہ بیگم

جمیلہ بیگم

انوری

انوری



ہندو سلیموں کے نام

अरुणा राज

ارونا راج

भगवती

بھگوتی

पद्मावती

پدماوٹی

पुष्पा देवी

پُشپا دیوی

अमृतदेवी

امر ت دیوی

प्रकाश कुमारी

پرکاش کماری

सुदेश कुमारी

سودیش کماری

किरन बाला

کرن بالا

मनोहर देवी

منوہر دیوی



ہندو پورුषोں کے نام

ہر�گوان

گردھاری لال

سونورام

دین دیال

گیان چند

کمل کمار

شیام کمار

دُرگا پرشاد



کنھیا لال

لیکھ راج

ہر بیش چندر

جگد بیش چندر

بودھ راج

دھوہی مل

رمیش چند

پرشو تھم داس

کنھیا لال

لے� راج

ہری شاھ نڈ

جگد دیش چنڈ

بودھ راج

دھوہی مل

رمیش چنڈ

پرشو تھم داس

ہندی مہینے

چت

چپت

کوار

کوار

ਬیساخ

بیساکھ

کارتک

جےٗش

جیٹھ

اگھن

اگھن

آषادھ

آسڑھ

پوہ

پوہ

سافن

سافن

ماڈھ

ماڈھ

بھادوں

بھادوں

فاغون

پھاگون

अरबी महीने

मुहर्रम

सफ़र

रबीउल अव्वल

रबीउस सानी

जमादुल अव्वल

जमादुस सानी

रजब

शःबान

रमज़ान

शब्वाल

ज़ीक़ाद्‌ह

ज़िलहिज्ज़ह

محرم

صفر

ربيع الاول

ربيع الثاني

جمادي الاول

جمادي الثاني

رجب

شعبان

رمضان

شوال

ذي قعده

ذى الحجّة



سپتاہ کے دن

سنبھار
(شنبیوار)



इتवार
(रविवार)




پیر
(سومवार)



مंگال
(मंगलवार)



بُدھ
(बुधवार)



جمعرات
(बृहस्पतिवार)



जुमा
(शुक्रवार)

वर्ष के बारह महीने

जनवरी جنوری

सितम्बर ستمبر

फरवरी فروری

अक्टूबर اکتوبر

मार्च مارچ

नवम्बर نومبر

अप्रैल اپریل

दिसम्बर دسمبر

मई مئی

जून جون

जुलाई جولائی

अगस्त اگست



વाक्य

एक آدمی بیٹھا ہے ।

ڈبے کے اندر کیا ہے
ڈبے کے اندر کیا ہے ।

ابھی تک تو نہیں ہوا ہے۔

अभी तक तो नहीं हुआ है ।

کیا تم نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے۔

ک्या तुमने अपना सबक़ याद कर
لिया है ।

एक मुर्गा लाओ ।

एक مُرغیٰ لاؤ۔

کितने की آई है ? کتنے کी آئی ہے ؟

سہارنپوری ہیں

اجی اور دو گھنٹے بعد ۲۵ پیسے کلو ملے گی۔

اُجی اور دو گھنٹے بعد ۲۵ پیسے کیلو
میلے گی

کیوں؟ میں بازار چلا گیا تھا۔

ک्यों؟ میں بازار چلا گیا تھا۔

آم تو بہت میٹھے ہیں

آام تो بہت میٹھے ہیں

بازار کیا لینے کئے تھے۔

بازار کیا لینے کئے تھے۔

دو کلو ابھی لا یا

دو کلو ابھی لا یا

کتنے آم لایے ہو؟ دو کلو
کیتنے آم لایے ہو؟ دو کیلو

دس پیسے کی ہے مہنگی ہے
دس پیسے کی ہے مہنگی ہے

پان لے آئے۔ اور کیا لائے ہو؟
پان لے آئے۔ اور کیا لائے ہو؟

توب برف بھی لے آؤ
تو اب برف بھی لے آؤ

کتنا برف لے آؤ؟؟؟
کتنا برف لے آؤ؟؟؟

جی! سیکریٹ۔
جی! سیکریٹ۔

نہیں صرف ڈیرٹھ گلاس

نہीں سिर्फِ ڈेढِ گیلास

اب لسی بناؤ
�ब لسی بناओ

کیا آپ تین گلاس پینے کے؟

ک्या اپ تین گیلास پیयेंगे؟

ضرور پان کھائیے گا۔

ज़रूर पान खाईयेगा।

कैसे؟ अभी लाया

کیسے؟ ابھی لا یا

दूध को ठंडा करो

دُودھ کو ٹھنڈا کرو۔

بازار سے لے آؤ۔

بازار سے لے آؤ۔

دُودھ کہاں ہے?

کیتھا؟ دُڈھ کیلے

تھے بنا دو لسی

لو وہ گھنٹی نج گئی۔

تو پھر چھٹی کیوں نہیں لے لیتے۔

تھے فیر چھٹی کیوں نہیں لے لیتے۔

جہاں دوسرا لڑکا ہو

سلیم یاد رکھو، پُٹو گے
سالیم یاد رکھو، پُٹو گے

سستی ہے

دُودھ کہاں ہے؟

کتنا؟ دُڈھ کلو

تو بنادو لسی

لو وہ گھنٹی نج گئی۔

سستی ہے

بھیں رہنے دو۔

بھائی میری طبیعت اچھی نہیں۔

بھائی میری طبیعت اچھی نہیں۔

میرے لئے آج سائیکل

میرے لیए آج سائیکل

وقت پر آیا کرو

حسن وقت ضائع کرتا ہے۔

حسن وقت جایا (نষ्ट) کرتا ہے।

پھر کیا جرمانہ ہوا؟

حساب کا۔ کیسا ہوا؟

چلانا بھی مشکل ہے۔

میرے خیال سے دو سو میں سے ایک سو
چالیس نمبر ضرور آئینگے۔

mere rokyaal se do sau mein se ek sau chaliis
nمبر jruur ayege।

میں شام کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔

main sham ko tu mhare ghar phuncha duungaa।

تمہیں وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے

tu mhe wahan nahi batana chahiye

جیسے گوپاں آتا ہے۔

jaise gopal ata ہے۔
jumana kia karna tha۔

اچھا جلدی سے امتحان کے کمرے میں پہنچ جاؤ۔
�च्छا جلدی سے امتحان کے کمرے مें
پہنچ جاؤ।

کون سا پر چا تھا؟
کہنے لگے۔ اچھا ہوا ہے۔

کہنے لگے۔ اچھا ہوا ہے۔

ڈاکٹر نے مجھ سے کہا
ڈاکٹر نے مुझ سے کہا

ہیڈ ماسٹر جی نے مجھ سے کہا تھا
ہیڈ ماسٹر جی نے مुझ سے کہا تھا

یہ دوکان کرایہ کے لئے خالی ہے۔
یہ دوکان کرایہ کے لیے خالی ہے۔
�ہ دوکان کرایہ کے لیے خالی ہے۔
یہ دوکان کرایہ کے لیے خالی ہے۔

پانچویں گھنٹے میں حاضری لے لی تھی۔
پانچویں گھنٹے میں حاضری لے لی تھی۔

نہ تو تم میں کچھ عقل ہے
نہ تو تم میں کچھ عقل ہے

کہ تم پھر دیر سے کیوں آئے
کیا تو تم پھر دیر سے کیوں آئے؟

کیا تمہیں یاد نہیں تھا
کیا تمہیں یاد نہیں تھا

آج ایک امتحان ہے۔
آج ایک امتحان ہے۔

اب تم پر جرمانہ کیا جائیگا۔
اب تم پر جرمانہ کیا جائیگا۔

اب تم پر جرمانہ کیا جائیگا۔
اب تم پر جرمانہ کیا جائیگا۔

اس کا نام بتاؤ۔
اس کا نام بتاؤ۔

سائل نے کہا۔ ”پرماتما تم کو بیٹا دے۔“

سایال نے کہا پرماتما تुम کو بےتا دے।

خُدا کرے تم پھولو پھلوا۔

खُدَا کرے تुم فُلے فلے।

میں نے ان سے کہا۔ میں نے ان سے کہا۔

کہاں سے لیا تھا؟ کہاں سے لیا تھا؟

کچھ پھل نہ کھاؤ۔ کچھ پھل نہ کھاؤ۔

کاش میں کسی امیر کے گھر میں پیدا ہوتا۔

کاش میں کسی امیر کے گھر میں پیدا ہوتا۔

تمہاری عمر کیا ہے؟ تمہاری عمر کیا ہے؟

میرے نانے کہا۔ ”میں دہلی جاؤں گا۔“

mere naan ne kaha "main deheli jaunga"

وہ مان گیا کہ اُس نے گستاخی کی ہے۔

وہ مان گیا کہ اُس نے گستاخی کی ہے۔

اسکا بھائی کارخانے میں کام کرتا ہے۔

उسکا بھائی کارخانے میں کام کرتا ہے۔

اپنا وقت رائیگاں نہ کرو!

اپنا وکٹ رائیگاں نہ کرو!

اس کتاب کی بکری بہت ہوتی ہے۔

اس کتاب کی بکری بہت ہوتی ہے۔

اگر تم پچ بولو گے۔

اگر تم پچ بولو گے۔

اس کا قلم کتنے کا تھا؟

उस کا کل میں کیتنے کا ثا؟

اور نہ تم کسی کی بات مانتے ہو۔

اور ن تु م کیسی کی بات مانتے ہو

تم دوپھر سے پہلے نہیں جا سکتے۔

تُم دوپھر سے پہلے نہیں جا سکتے۔

سوار نے گھوڑے کو رستی سے درخت کے
ساتھ باندھ دیا۔

سوار نے گھوڑے کو رستی سے درخت کے ساتھ
باندھ دیا۔

آگرہ اسٹیشنری اسٹور سے۔

आگرا اسٹیشنری اسٹور سے۔

تمہارے بھائی کی عمر کیا ہے؟
تुम्हारे بھائی کی عمر کیا ہے؟

میں کوئی وجہ نہیں بتا سکتا کہ وہ تم سے کیوں
ناراض ہے۔

مैं کोई وضیح نہیں بتا سकتا کہ وہ
تُم سے ک्यों ناراض ہے۔

وہ چھاتا جو تم نے مجھ کو دیا تھا، کم ہو گیا ہے۔

وہ چھاتا جو تم نے مجھ کو دیا تھا،
گُرم ہو گیا ہے۔

پانچ روپے کا
ڈھونڈنے کو لے گیا ہے۔

پانچ روپے کا
ڈھونڈنے کو لے گیا ہے۔

جس بچے کا قلم کھو گیا ہے۔

जिस बच्चे का क़लम खो गया है

ننگे سر دھोप मیں پھرنا

नंगे सिर धूप में फिरना

�ई سड़क से نئी سڑक से۔

اُس کا نام ہے! اختر!

उस का नाम है अखतर

تُم کتنے نیک ہو۔ تُم کتنے نیک ہو?

تو میں تُم کو معاف کر دوں گا۔

तो मैं तुमको माफ़ कर दूँगा।

دوکاندار نے کہا कہ میں ادھار نہیں دیتا۔

दुकानदार ने कहा कि मैं उधार नहीं देता

صحت کے لئے مضر ہے۔

سہبتوں کے لیے مُعذِّر ہے ।

کس دُوکان سے؟

میں خوشبوار تیل استعمال کرتا ہوں۔

میں رُخُش بُوڈا ر تیل اسٹو مال کرتا ہوں ।

باپ نے اپنے بیٹے سے کہا۔

باپ نے اپنے بیٹے سے کہا

جو فرض لینے جاتا ہے، مصیبت مول لینے
جاتا ہے۔

جو کڑھ لene جاتا ہے، مُسیبَت مول
لے نے جاتا ہے ।

لپڑج

ہلکا

حلوہ

سہرہ

(ریگیستان)

صحرا

ساحب

صاحب

ہل

(سماڈان)

حل

نؤکر

نوکر

دّاوات

بُولَاوا

دعوت

ماؤل

उचیت

معقول

امال

کریا

عمل

ہالات

ہیمايٽ

(اہسان)

ہیکایت

(کथا)

نفڑا
لابھ

फِل
کام

آلیم
વیدوان

تالیم
شیکھا

حالت

جماعت

حکایت

نفع

فعل

علم

تعلیم

शफ़क़ (लालिमा)

شَفَقَ

बालिग़ा (व्यस्क)

بَايْغٌ

मग़रिब (पश्चिम)

مَغْرِبٌ

मुग़ल

مُغْلٌ

चुग़ली

چُخْلٰی

(बुराई करना)

उफ़क़

أُفْقٌ

(क्षितिज)

हासिल

حَاصِلٌ

سَدَرٌ

صَدَرٌ

अज़ाब

عَذَابٌ

تَسْكِيرٌ

(यातना)

تصویر

سُبْر	صَبْرٌ	لَذْت
(ধৈর্য)		(প্রসন্নতা)
سَفَارِد	صَفَّافٌ	مُضْبُوط
سُورَت	صُورَتٌ	ظَالِم
مُسَبِّحَر	مُصَوِّرٌ	ظَاهِر
(চিলকার)		
سِيل	سِلٌ	عُذْر
سَايَن	سَائِنٌ	مَدَاق
تَالِبٌ	طَالِبٌ	قَضَا
كِتَا	قَطْعَه	مُظَاهِرہ
(দোহা)		
مَتْلُوبٌ	مَطْلُوبٌ	نَذْر
(ইচ্ছিত)		
تَوْكِّه	طُوقٌ	فَيْض
(পটু)		

کاٹھ	قبض	سنسار	سنسار
مژالوں (उत्पीड़ित)	منظوم	فرانس	فرانس
આلا (મहાન)	اعلیٰ	اسکول	اسکول
مژاہب (धर्म)	ذہب	سوراجیہ	سوراجیہ
فِیڈا (ہવाई ک्षेत्र)	فضا	سنار	سنار
ڈاکٹ (نیयंत्रण)	ضبط	سممن	سممن
نڈم (माला, کविता)	نظم	سینگریٹ	سینگریٹ
ڈارا (کण)	ذرہ	خُت	خُت
نیڈام (پرانाली)	نظام	غَلط	غَلط
بےڈا (سूरज, चमकदार)	بَرْضَه	مَطَابَ	مَطَابَ

سافر	سفر	نکाब (مुखौٹا)	نقاب
فکریں	فکر	میسال	مثال
کسرت	کشہت	سائبیت	ثابت
میسل (پرچھوتا)	مشل	نسخہ (گذرا)	شر
اسرار	آثر	سورج	سُورَج
نیساں (بَلِیدَان)	شَار		



Amma para with
Tarjuma (audio)



Istikhara with Sound
(اسْتِخَارَة)



Juz Amma with
Hijje (PARA 30)

5.0 ★

ज़फ़्र
बर्तन

طرف

तलब
माँग

طلب

ज़िद
आग्रह

ضدُّ

ساندूक
बक्स

صندوق

ज़रर
हानि

ضرر

سبر
سنتوپ

صبر

ज़िक्र
वर्णन

ذِكْر

ہیسمہ
भاگ، اंش

حصہ

ज़रा
थोड़ा

ذرًا

ہمڈ
پرشنسا

حمد

समर
फल

ثمر

अक्ल
बुद्धि

عقل

ناظم

ناज़िم
प्रबंधक

نظم

जुल्म
अत्याचार

عذاب

उन्नाब
एक औषधि

طلا

تیلہ
سونا

صرائی
سُراغی

علم
इलम
विद्या

ضرورت

ज़रूरत
आवश्यकता

ثبوت

سابق
प्रमाण

طول

تول
لمباری

دو اک्षरی شब्द

بڈ	ب	پر	پر
بُرا			
نس	ن	ٹن	ٹن
پل	پ	سن	سن
جج	ج	سار	سر
چل	چ	شک	شک
دس	د	کب	کب
دم	دم	کل	کل
ڈس	ڈس	گپ	گپ
ڈر	ڈر	سچ	سچ

دو اک्षरی شब्द

لٹ

لٹ

فُن

مٹ

مٹ

چل

نس

نس

کب

نگ

نگ

گپ

ہٹ

ہٹ

لگ

ہر

ہر

مت

یک
(एक)

یک

خط

نا

نا

ہم

یہ

یہ

ضد

दो अक्षरी शब्द

शक

شک

गुल

غُل

तीन अक्षरी शब्द

ढाल

ڈھال

ढोल

ڈھول



Manzil with Sound



Color coded PARA
2(Juz' 2) wit



50 URDU GHAZALS
by Mazhar

تین اک्षरی شब्द

چرخ	چکھ	دُرد	
چढ़	چڑھ	خَيْر	
مےں	میں	لٹک	
�ر	گھر	ہے	
سائبَب (کارण)	سبَب	شُوك	شُکر
اِدھر	ادھر	کپٹ	
فِکر	فکر	وَجْه	
بچوں	بچوں	بَدن	بدن
سِرخْت	سِرخْت	نِڈر	نُڈر

تین اک्षरی شब्द

بگال

(کانخ)

میسل

(نمونا)

منا

آتی

مگر

نمک

لطف

دو

آدم

بغل

مش

منع

آتی

نہک

لطف

دو

آدم

گیت

کسماں

کیا

میل

شاہر

لات

یاد

دھم

گال

گیت

قسم

کیا

میل

شہر

لات

یاد

دھم

گال

تین اک्षरی شब्द

ساف

صاف

سفر

سفر

بُرا

بُرا

فِكْرَة

فقط

حسن

حسن

جات

جات

(سुंدروتی)

شمر

شمر

بات

بات

مان

مان

نظر

نظر

ٹھن

ٹھن

دیر

دیر

(سامنا کرنا)

یہی

یہی

झار

جھر

بڑا

بڑا

ورم

ورم

(سُوجن)

سمجھ

سمجھ

کبھی

کبھی

چار ہفتی لفظ

چھار
(چار)

چھار

ہفتی
(پہنچی)

ہفتی

بستا

بستہ

بیسٹر

بستر

چائے خٹ

چوکھٹ

مکاتب
(سکول)

مکتب

کپڑے

کپڑے

سईد
(خوش)

سعید

اعزاز
(کषٹ پہنچانا)

عذاب

سراکتی

مراکملا

اندر

تراکتی

کترارا

کیتاب

علیم
(ویڈان)

کشتی
(ناو)

ہاجیر

سختی

مخمل

اندر

تختی

قطرہ

کتاب

علم

کشتی

حاضر

چار ہفتی لفظ

کاپی	کاپی	نیساں	شار
بسمی	برسی	شیشا	شیشہ
کاٹی	کٹی	بیوالی	بکلی
راڑی	راضی	بالیگا	بالغ
ناصیر	ناصر	رشید	رشید
(ویجہت، سہایک)		(بہادور)	
تخت	تخت	زمین	زمین
سُرمه	سُرمه	کےسا	کیسا
پانی	پانی	بیٹھو	بیٹھو

چار ہفتی لفظ

ज्ञान	گیان	थ्यास	پیاس
न्योला	نیو لا	بیجلی	بجلی
क्यों	کیوں	باہر	بہر
थ्यार	پیار	جانا	جانا
ब्याह	بیاہ	کمара	کمرہ
पैसा	پسیسے	مٹکا	مٹکا
जैसा	جیسا	سُٹھرا	ستھرا
मैला	میلا	ڈنگڑا	چھکڑا
ਮुश्किल	مشکل	थیلا	ٹھیلا
دफ्तर	دفتر		

چار ہفتی لفظ

مੁਨ්ਸි
(ਮੁਨੀਮ)

مشی

خواترا

خطرہ

مطالب

مطلب

شانکر

شکر

رستا

رستہ

مطالب

مطلب

ज़ाहिर
(प्रत्यक्ष)

ظاہر

گوچھا

کچھ

کلے

کیلے

کنیڈž
(ناؤکراناں)

کنیز

کٹارا
(بُوند)

قطڑہ

پنڈھٹ

پنگھٹ

سیدھی

سیرھی

छتاری

چھتری

پانچ اک्षरی شब्द

تھریر
(لیخیت)

مُسافِر

ઇجاڙت

ઇبادت
(پूजा)

ڈیاڏا
(�धیک)

ہمَاڪَت
(مُوڪَّتا)

نسیحت
(سلاہ)

گنیمت

شکاری

تحریر

مسافر

اجازت

عبادت

زیادہ

جماعت

نصیحت

غنیمت

شاری

بارسات

کشمیر

تکڏیر
(भाग्य)

تजવیڙ
(پرسٰٹاوا)

مُناسِب
(उचیت)

شہادت

درادا

مُسیبت

برسات

کشمیر

تقدیر

تجویز

مناسب

شہادت

اراده

مصیبت

پانچ اک्षरی شब्द

مچھرا	محضیہرا
پکاؤڈی	پکوڑی
منظور	منظور
مضبوط	مضبوط
آسمان	آسمان
تکلیف	تکلیف
بیوپار	بیوپار
سرسام	سرسام
چراغاہ	چراغاہ

۷۰ تشدید

جناح	جنت	اممی	آئی
پتہ	پشا	ھوکھا	حُصہ
اممیں	ماں	تللہ	اُلوں
معنی	منا	खچر	خچپر
کھسکھا	قصہ	پکا	پکا
سچا	سچا	اول	اول
میری	میں	دہلی	دی
گھسٹا	غصہ	ہیسٹا	حصہ
آببا	آبے	لڑکوں	لڑوں

۷ تشدید

بَلَّا	کَلَّا
خَدْعَةٌ	رَهْبَةٌ
جَنْنَانٌ	كُوتَّانٌ
مُعْنَنٌ	چَحْنَانٌ
بَهْدَأٌ	أَجْهَدَأٌ
بَرْدَهٌ	مَجْهَرٌ
قُوْدَىٰ	چَقْرَبٌ
رَسْسَىٰ	قِصْرَىٰ

संयुक्त अक्षर

गोभी	گوبھی	भाई	بھائی
फुलका	پھلکا	थोड़ा	ٹھوڑا
साथी	ساتھی	झंडी	جھنڈی
थैला	تھیلا		
झालर	چھالر		
खाया	کھایا		



Stories of childhood



Surah Yaseen 7
mubeen wazifa



Para 2 with Tarjuma

ناتے رسول - شفیک را ی پوری



بزم مولی علی

طرح: ان کی مدحت سے

طبعیت کو روائی مل گئی

عرضِ موسیٰ کو صدائے لن ترانی مل گئی

میرے آقا کو فضائے لا مکانی مل گئی

اے نسیمِ صحیح تجھ کو گل فشانی مل گئی

گلشنِ طیبہ کی جب سے با غبانی مل گئی

بندۂ عشق نبی ہیں اور کچھ حاجت نہیں

ہم شاخوانوں کو بزمِ نعمت خوانی مل گئی

ہم سے مدحت کے چمن میں ایسے غنچے کھل اٹھے

جن سے مداح نبی کو روت سہانی مل گئی

روضۂ سرکار پر قسمت سے موت آئے اگر

پھر سمجھ لو کہ حیاتِ جاودائی مل گئی

ہم نے جو شے بھی طلب کی روضہ سرکار پر
فضل رب اور مصطفیٰ کی مہربانی، مل گئی
بے خودی میں جلوہ جاناں کے حاصل تھے مزے
معرفت کی جب شرابِ ارغوانی مل گئی
ہو گئے کافور رنج و غم در سرکار پر
اضطرابِ دل ہوا کم شادمانی مل گئی
منجمد سا کر دیا تھامو سسم حالات نے
"انکی مدحت سے طبیعت کو روائی مل گئی"
مصطفیٰ کی دین ہے یہ اے شفیق بے نوا
نعت گوئی میں تجھے جو خوش بیانی مل گئی

شفیق رائے پوری

۵ جون ۲۰۱۹ء

جدل پور بستر چھتیس گڑھ (انڈیا)

Mobile 9406078694

shafiqueraipuri.5654@gmail.com

ناتے رسول - شفیک را ی پوری

بزم قادری نیٹ ورک گروپ میں کہا گیا مکمل کلام
30 وال مصرع بنام نعت و منقبت

طرح: سوئی قسمت کو جگانے ہم مدینے جائیں گے

لے کے مدحت کے ترانے ہم مدینے جائیں گے
سرورِ دیں کو سنانے ہم مدینے جائیں گے

روکتا کیوں ہے دوانے! ہم مدینے جائیں گے
"سوئی قسمت کو جگانے ہم مدینے جائیں گے"

گنبدِ خضرا کے سارے میں رہیں گے روز و شب
مشک و عنبر میں نہانے ہم مدینے جائیں گے

کر چکے ہیں ظلم جا پر، اب شفاعت کے لئے
دی اگر مہلت قضا نے ہم مدینے جائیں گے

آیتِ لائر فعوا صواتِ کم کی چھاؤں میں
مدعہ کے لب ہلانے ہم مدینے جائیں گے

کون چاۓ گا مدینہ کون مکہ پوچھئے
بول اُھیں گے دوانے ہم مدینے جائیں گے

پھر شہنشاہِ مدینہ کب بلائیں گے شفیق
پھر دوبارہ کب نہ جانے ہم مدینے جائیں گے

شفیق رائے پوری

ناتے رسول - شفیک را ی پوری

مکمل کلام

بزمِ اہل بیت

سنابی سے جو قرآن کے ترانے کو
زمانہ ہو گیا مجبور سر جھکانے کو
بھٹک رہے تھے ضلالت کی تیرگی میں سب
تم آگئے تو ملی روشنی زمانے کو
لگانہ دے کہیں دنیا مجھے ٹھکانے سے
ٹھکانہ دیجئے سر کاربے ٹھکانے کو
دکھادو رو ضرہ اقدس کی اب بہار مجھے
محل رہا ہے دل بے قرار آنے کو

حضور اپنی نگاہِ کرم کی خوشبو سے
بسائیئے بھی میرے غریب خانے کو
اہی جلوہِ انوارِ مصطفیٰ دکھلا
غمِ حیات کی تاریکیاں مٹانے کو
وسیلہ حضرتِ بے کس پناہ کا لے کر
دعاگئی مری تاثیر لوٹلانے کو
شفیق حشر میں جب لوگ رور ہے ہوں گے
کہیں گے احمدِ مختار مسکرانے کو

شفیق رائے پوری

ناتے رسول - شافیک را ی پوری

منتهیا نے فکر کے طرحی مشاعرے میں کہا گیا کلام
"طرح: "اپنی خوشبو پہ خود ہی شید اہوں

عشقِ شاہِ امم کا سکھ ہوں
دل کے بازار میں کھنکتا ہوں

اعترافِ غزل بھی ہے لیکن
اب میں نعتِ رسول لکھتا ہوں

نعت سے یوں مشامِ جاں مہکا

"اپنی خوشبو پہ خود ہی شید اہوں"

جس کے سائل ہیں شاہ و سلطان بھی
ایسی سرکار کا میں منگتا ہوں

میری پہچان اب یہی ٹھہری

میں گدائے شہِ مدینہ ہوں

جائے شاہِ امم کے روضے پر

اب تصور میں بیٹھ جاتا ہوں

یا اہی مجھے شجر کر دے

عشقِ شاہِ ز من کا پودا ہوں

مسئلہ کوئی ہو میں اس کا حل

سیرتِ مصطفیٰ سے لیتا ہوں

ذرر کوچہ نبی ہو جا

پھر یہ کہنا بلند رتبہ ہوں

آج کل میں سخن کے گلشن میں

نعت کے پھول ہی کھلا تا ہوں

جن رسالوں میں نعمتِ پھیپھی ہے
میں انہیں میں شفیق ملتا ہوں

شفیق رائے پوری



Word Search for
Kids
3.7 ★



PARA 1 with Hijje
(sound)
4.2 ★



Yassarnal Quran
with Audio
4.9 ★



Para 30 with Audio



नमाज़ का तरीक़ा - हिंदी
में नमाज़
5.0 ★



Five Surah with
Sound
4.8 ★

ناتے رسول - شفیک را ی پوری

عالمی شهرت یافتہ حلقة فن شاعری میں کہا گیا مکمل کلام
طرح: عشق کی راہ میں چلتے ہوئے تھک جاتے ہیں

عشق سرکار کا جو لے کے نمک جاتے ہیں
ظلمت قبر میں وہ چہرے چمک جاتے ہیں
نام لیوا جو رضا کے ہیں چمک جاتے ہیں
اس لئے نجد کی آنکھوں میں کھٹک جاتے ہیں

پھول ہے جس کا سراپا، ہے پسینہ خوشبو
ذکر اس کا ہو تو اطراف مہک جاتے ہیں

کا پی ہو کہ بربی ہو کہ مارہ رہ ہو
راستے سارے ہی سرکار تک جاتے ہیں

دیکھ کر گنبدِ خضراء کا مرے گھر طغرا
قا فلے رنج و مصائب کے ٹھٹھک جاتے ہیں
پیش کرتے رہیں سرکار کی خدمت میں شفیق
ڈالیاں لے کے درودوں کی ملک جاتے ہیں


شفیق رائے پوری



Surah Yaseen 7
mubeen wazifa (



Imam Hussain &
Karbala ki Jang



Learn Hindi Part 1
with audio

संक्षिप्त रूप विराम - चिह्न

विराम - चिह्न

पूर्ण विराम



अल्प विराम



अर्ध विराम



उद्धरण चिह्न



कोलन



प्रश्नसूचन चिह्न



विस्मयादिबोधक चिह्न



तारीख के बाद

۱۳ / اگسٹ



वर्ष के लिए

۱۸



संक्षिप्त रूप विराम - चिह्न

इस्खी कैलेंडर के
वर्ष का सूचक

۱۳۱۲



इस्लामी कैलेंडर के वर्ष का अलामत

۱۴۳۲



शेर या पद लिखने से पहले
कवि के उपनाम का अलामत



पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद के नाम के साथ
एहतराम का अलामत



पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद के साथियों के नाम
के साथ एहतराम का अलामत



रहमतुल्लाह अलैह, औलिया किराम
और दीगर बुर्जुगाने दीन के लिये
इस्तेमाल होता है।

URDU LEARNING APPS



Urdu Qaida part 1



Urdu Qaida part 2



Urdu Qaida part 3



Urdu Qaida Part 4



Learn Urdu Part 5



50 Urdu Gazals

Please download
next parts

